



کیا آپ کو NDIS حاصل کرنے اور اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے؟

SSI لوکل ایریا کوآرڈینیشن (مقامی علاقے میں روابط اور ہم آہنگی)



Need help accessing and understanding the NDIS?

SSI Local Area Coordination

Delivering the NDIS in your community

Urdu

ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں

سیٹلمنٹ سروسز انٹرنیشنل (SSI) National Disability Insurance Agency (NDIA) کے لیے قومی انشورنس ایجنسی - (NDIA) کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے نیو ساؤتھ ویلز میں لوکل ایریا کوآرڈینیشن کی خدمات فراہم کرتا ہے۔

لوکل ایریا کوآرڈینیٹر (LAC) کی حیثیت سے SSI سے 7 سے 64 سال عمر کے لوگوں کو National Disability Insurance Scheme (معدوروں کے لیے قومی انشورنس سکیم - NDIS) کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں دوسری خدمات اور مدد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔

ہم ان علاقوں میں خدمات دیتے ہیں:

SSI مندرجہ ذیل لوکل گورنمنٹ کے علاقوں سمیت سڈنی اور ساؤتھ ویسٹ سڈنی میں رہنے والوں کو لوکل ایریا کوآرڈینیشن کی خدمات فراہم کرتا ہے:


ساؤتھ ویسٹ سڈنی

- Bankstown •
- Camden •
- Campbelltown •
- Canterbury •
- Fairfield •
- Liverpool •
- Wingecarribee •
- Wollondilly •

سڈنی

- Ashfield •
- Canada Bay •
- Leichhardt •
- Marrickville •
- Strathfield •
- Sydney •

ہم کیا کرتے ہیں



یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا آپ NDIS سے مدد لینے کے لیے اہل ہیں، براہ مہربانی www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible دیکھیں

چاہے آپ NDIS کی مدد کے لیے اہل ہوں یا نہ ہوں، SSI کے LACs اس سلسلے میں آپ کو مدد دیں گے:



وہ مدد حاصل
کرنا جو آپ
کو اپنی مقامی
کمیونٹی سے
درکار ہے



یہ سمجھنا کہ
NDIS تعلیم،
صحت اور
ٹرانسپورٹ
سمیت دوسری
سرکاری خدمات
کے ساتھ کیسے
کام کرتی ہے



آپ کی کمیونٹی
میں مقامی
امدادی خدمات
سے جڑنا



اعتماد کے ساتھ
NDIS کو سمجھنا،
حاصل کرنا اور
اس کے نظام میں
چلنا

ہم سے رابطہ کریں

کیا آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں؟ ہماری intake team (پارٹیسپیٹس کو شامل کرنے والی ٹیم) مدد کے لیے حاضر ہے

SSI کی LAC Intake team تمام نئے اور موجودہ پارٹیسپیٹس (سکیم سے استفادہ کرنے والے لوگوں) کے لیے رابطے کا اولین نقطہ ہے۔ ہمارے صاحب علم Intake آفیسرز سب سوالوں کا مؤثر اور مستعد طور پر جواب دے کر، NDIS کے بارے میں اپنا علم دوسروں تک پہنچا کر اور فون کرنے والوں کو معلومات اور سہارا دے کے پارٹیسپیٹس کی مدد کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ ٹیم ہماری سروس کے بارے میں آراء کے سلسلے میں بھی مدد کرتی ہے۔

آپ اس طرح ہمارے کسی Intake آفیسر سے رابطہ کر سکتے ہیں:

1800 960 975 پر کال کریں،
صبح 10 بجے سے 4 بجے، پیر تا جمعہ



یا

عام سوالات کے لیے lac@ssi.org.au پر ای میل کریں



اپنی رائے دینے کے لیے lacfeedback@ssi.org.au پر ای میل کریں

SSI کی لوکل ایریا کوآرڈینیشن کی خدمات اور شرکت کے مواقع کے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی یہاں دیکھیں

www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

SSI کے بارے میں

SSI ایک کمیونٹی تنظیم اور سماجی کاروبار ہے جو آسٹریلیا میں نئے آنے والوں اور دوسرے باشندوں کو اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لانے میں مدد دیتا ہے۔ ہم ان سب لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جنہیں مشکلات کا سامنا رہا ہے جن میں پناہ گزین، پناہ کے درخواست گزار اور تہذیبی و لسانی لحاظ سے متنوع کمیونٹیاں شامل ہیں تاکہ ان کی اہلیت بڑھائی جائے اور انہیں عدم برابری کے اثرات سے نکلنے کے قابل بنایا جائے۔

2014 سے SSI معذور لوگوں، ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں کو Ability Links اور IgniteAbility® Small Business Start-ups (چھوٹے کاروباروں کے آغاز کے لیے مدد) جیسے کمیونٹی میں دستیاب کئی پروگراموں کے ذریعے سہارا فراہم کر رہا ہے۔ ہم پورے نیو ساؤتھ ویلز میں اپنے عملے اور پارٹنرس (سکیم سے استفادہ کرنے والے افراد) کی مہارت اور مقامی کمیونٹیوں میں ان کے روابط کے ذریعے معذوروں کے لیے خدمات فراہم کرنے کا وسیع علم رکھتے ہیں۔

اپنے عملے میں 90 سے زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے دو لسانی اور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت کے ساتھ، ہماری خدمات افراد اور گھرانوں کے لیے اس طرح تشکیل دی گئی ہیں کہ وہ اپنی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی ترجیحات کی شناخت کریں اور اپنی حالیہ اور آئندہ ضروریات پوری کریں۔

ہم تمام متنوع کمیونٹیوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں جن میں ایوریجنل اور ٹورس سٹریٹ آئی لینڈر، تہذیبی اور لسانی لحاظ سے متنوع اور LGBTQIA+ پس منظروں کے لوگ شامل ہیں۔